

India-Australia-Japan-United States Senior Officials Consultations

September 25, 2020

ہندوستان- آسٹریلیا- جاپان- امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی باہمی مشاورت

25 ستمبر، 2020

ہندوستان کی وزارت خارجہ، آسٹریلیا کے محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت، جاپان کی وزارت خارجہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیداروں نے مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت کے لئے 25 ستمبر 2020 کو ویڈیو کانفرنس کی۔

نومبر 2019 میں اس طرح کی آخری سرکاری سطح پر ہونے والی بات چیت اور ستمبر 2019 کی وزارتی سطح پر ملاقات کے بعد، عہدیداروں نے رابطے اور انفراسٹرکچر ڈولپمنٹ کے شعبوں میں جاری اور مجوزہ عملی تعاون اور انسداد دہشت گردی، سائبر اور بحری تحفظ سمیت سیکورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد انڈو پیسیفک کے خطے میں امن، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔

جاری کووڈ 19 عالمی وبائی مرض کی صورتحال کے تناظر میں، عہدیداروں نے سپلائی چین کی لچک کو بڑھانے اور اس وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بہترین طریقوں کو شیئر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔

عہدیداروں نے مشترکہ اقدار اور اصولوں اور بین الاقوامی قانون کے احترام پر مبنی آزاد، کھلی، خوشحال اور جامع انڈو پیسیفک کے خطے کی خاطر اپنے عزم کی تاکید کی۔

عہدیداروں نے انڈو پیسیفک کے علاقائی ڈھانچے میں آسیان کی مرکزیت اور آسیان کی زیر قیادت میکانزم، خاص طور پر رہنماؤں کی زیر قیادت مشرقی ایشیاء سمٹ کے لئے بھر پور حمایت کا اعادہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈو پیسیفک کے لئے ایک مشترکہ اور کامیاب وژن کو حاصل کرنے کے لئے آسیان اور دیگر تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تیاری کے لئے اپنی بھر پور حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آسیان کے لئے ویتنام کی چیئرمین شپ کی تعریف کی اور رواں سال نومبر میں ہونے والے پندرہویں مشرقی ایشیاء سمٹ کے منتظر نظر آئے۔ عہدیداران اس سال کے آخر میں منعقد ہونے والی وزارتی مشاورت کے لئے توقع ظاہر کی۔

نئی دہلی

25 ستمبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.